

انٹرمیڈیٹ امتحان پارٹ - II (کلاس بارہویں)

پرنسپل آف اکاؤنٹنگ پرچہ - دوسرا (کامرس گروپ) PRINCIPLES OF ACCOUNTING PAPER-II (COMMERCE GROUP) (NEW SCHEME)

TIME ALLOWED: 2.30 Hours

وقت = 2.30 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 80

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

کل نمبر = 80

نوٹ: - جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔
and its part number on answer book, as given in the question paper.

2. Attempt any five parts.

10 = 2 x 5

- Define Consignee.
- Define Consignment Account.
- Define Abnormal Loss.
- Define Partnership Deed.
- Define Active Partner.
- Explain Realization Account.
- Define Single Entry System.
- Define Closing Statement of Affairs.

سوال نمبر 2 - کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- کنسیگنی کی تعریف لکھیے۔
- کنسیگمنٹ اکاؤنٹ کی تعریف لکھیے۔
- غیر معمولی نقصان کی تعریف لکھیے۔
- معادہ شراکت کی تعریف لکھیے۔
- کارکن حصہ دار کی تعریف لکھیے۔
- حساب وصولی کی وضاحت کیجیے۔
- سنگل انٹری سسٹم کی تعریف لکھیے۔
- اختتامی گوشوارہ مالی معاملات کی تعریف لکھیے۔

3. Attempt any five parts.

10 = 2 x 5

- Define Amortization.
- Define straight line method of Depreciation.
- State difference between Shareholder and Debenture holder.
- Define Redeemable Debentures.
- Define issue of Shares at Premium.
- Define with example "Non Trading Concerns".
- What are sources of Income of Non-trading concerns?
- What is meant by Honorarium?

سوال نمبر 3 - کوئی سے پانچ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- امارٹائزیشن کی تعریف کریں۔
- مقررہ قسط کے طریقہ فرسودگی کی تعریف کریں۔
- حصہ دار اور تمسک دار میں فرق بیان کریں۔
- قابل واپسی تمسکات کی تعریف کریں۔
- شیرز کو پریمیم پر جاری کرنے کی تعریف کریں۔
- غیر تجارتی اداروں کی تعریف مثال کے ساتھ کریں۔
- غیر تجارتی اداروں کے ذرائع آمدنی کون سے ہیں؟
- اعزازیہ سے کیا مراد ہے؟

SECTION-II حصہ دوم

NOTE: - Attempt any three questions.

60 = 20 x 3

نوٹ: - کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔

4. On 1st January 2017, the financial position of Mr. Mohsin, who has not kept full double entry system, stood as follows:-
یکم جنوری 2017 کو مسٹر محسن کی مالی حالت، جس نے دوہرے نظام اندراج کو نہیں اپنایا، اس طرح تھی۔

	Rs.
Cash in hand	3450
Cash at Bank	55370
Stock	56900
Sundry Debtors	32750
Furniture	2100
Sundry Creditors	34570

His financial position at the end of 2017 was as follows:-

اس کی مالی حالت سال 2017 کے اختتام پر اس طرح تھی

	Rs.
Cash in hand	4500
Cash at Bank	24300
Stock	46800
Sundry Debtors	46200
Furniture	2500
Sundry Creditors	43500

دوران سال اس نے کاروبار میں سے مبلغ 65000 روپے نکالے جن میں سے مبلغ 56000 روپے کاروبار کے لیے ایک عدد کار خریدنے پر صرف کر دیے۔ اس کا گوشوارہ لفع و نقصان تیار کریں۔
During the year he withdrew Rs.65000 from the business out of which Rs.56000 were spent in purchasing a car for the business. Prepare his statement of profit and loss.

5. آذان کمپنی لمیٹڈ کا کل منظور شدہ سرمایہ مبلغ 100000 روپے تھا۔ جسے 1000 حصص فی حصص 100 روپے کے حساب سے تقسیم کیا گیا۔ یکم جنوری 2010ء کو کمپنی نے 900 حصص درج ذیل طریقے سے جاری کئے۔ (i) 200 حصص کیش کے بدلے انضمام کو دیئے گئے۔ (ii) 200 حصص بانیاں کو ابتدائی اخراجات کے سلسلے میں جاری کئے گئے۔ (iii) 500 حصص عوام کو جاری کرنے کے لیے پیش کئے گئے۔ 10 جنوری 2010 کو 700 حصص کی خرید کے لیے درخواستیں موصول ہوئی جن میں سے 500 حصص الاٹ کر کے باقی 200 درخواستیں واپس کر دی گئی۔ آذان کی کتابوں میں جنرل انٹری اور بیلنس شیٹ بنائیں۔
5. Azzan Company Limited was registered with an authorised capital of Rs.100000 divided into 1000 shares of Rs.100 each. On January 1st, 2010, company issued 900 shares in the (درج ذیل)

following manner:- (i) 200 shares to directors for cash. (ii) 200 shares to promoters against preliminary expenditure. (iii) 500 shares to general public. On 10th January 2010, Company received applications from public for 700 shares. 500 shares were allotted and the excess application money of 200 shares was refunded. Prepare journal entries and balance sheet.

6. Following is the receipt and payment account of Rehmat Club for the year ended 31st December, 2016:- مندرجہ ذیل رحمت کلب کا کھاتہ وصولی اور ادائیگی 31 دسمبر 2016ء کا دیا گیا ہے۔ -6

	Dr. Rs.
Opening balance	ابتدائی بیلنس 8000
Subscription	چندہ 21500
Entrance fee	داخلہ فیس 1300
Sale of old magazines	پرانے میگزین کی فروخت 50
Interest on investment	سرمایہ کاری پر سود 500
Other receipts	متفرق وصولیاں 800
Total	کل 32150

	Cr. Rs.
Salaries	مختواہیں 3600
Telephone charges	ٹیلی فون اخراجات 750
Insurance	بیمہ 1200
Misc. expenditure	متفرق اخراجات 480
Subscription of Newspaper	چندہ اخبار 640
Purchase of sports material	کھیلوں کے سامان کی خرید 6000
Closing balance	اختتامی بیلنس 19480
Total	کل 32150

31 دسمبر 2015ء کو سرمایہ کاری کا بیلنس 10,000 روپے۔ فرنیچر 5000 روپے، عمارت 25000 روپے، واجب الوصول چندہ 3000 روپے

On 31st December, 2015, balance of investments Rs.10,000, furniture Rs.5000, building Rs.25000, subscription due Rs.3000.

31 دسمبر 2016 کو موجود بیلنس واجب الوصول چندہ 2500 روپے، فرنیچر پر فرسودگی 10 فی صد اور عمارت پر 5 فی صد، سرمایہ کاری پر واجب الوصول سود 500 روپے ہے۔ کھاتہ آمدنی و اخراجات معلوم کریں۔

The balance as on 31st December, 2016 are, subscription due Rs.2500, depreciation furniture by 10% and building by 5 %, interest due on investment Rs.500

Prepare income and expenditure account.

7. Haleemah Khan sent to Shazia Khan 100 radio sets for sale on consignment. The cost of each set is Rs.500. She paid Rs.2000 for freight, Rs.1000 for insurance and Rs.500 cartage. Account sale was received showing that 80 sets were sold for Rs.700 each. The consignee incurred the following expenses. Clearing charges Rs.100, rent Rs.200, and salesmen salaries Rs.1000. Consignee will receive her commission at the rate of 5 %. Of the gross sale Consignee due amount through draft. -7

حلیمہ خان نے شازیہ خان کو 100 ریڈیو سیٹ کنسائنمنٹ پر فروخت کرنے کے لیے بھیجے۔ ایک ریڈیو سیٹ کی قیمت 500 روپے ہے۔ اس نے 2000 روپے کرایہ، 1000 روپے انشورنس اور 500 روپے ریڑھے کا کرایہ ادا کیا۔ اکاؤنٹ سیل وصول کی گئی جس کے مطابق 80 ریڈیو سیٹ بحساب 700 روپے فی سیٹ فروخت کر دیئے گئے۔ کنسائنٹی نے 100 روپے کلیئرنگ چارجز، 200 روپے رینٹ اور 1000 روپے فروخت کرنے والوں کو ادا کئے۔ کنسائنٹی اپنا کمیشن 5 % کی شرح سے فروخت پر وصول کرے گی۔ کنسائنٹی نے اپنے ذمہ واجب الادا رقم بذریعہ ڈرافٹ ادا کر دی۔ مطلوب:- مندرجہ بالا ٹرانزیکشن کو کنسائنٹر کی بکس میں درج کریں اور کنسائنٹ پر نفع معلوم کریں۔

8. On 1st June 2002, Mr. Abid purchased a machinery for Rs.75000. Estimated life of machine is 10 years. After which its scrap value will be Rs.5000 only. Find out the annual depreciation according to fixed instalment method and prepare the machinery account for first four years. -8

1st June 2002, Mr. Abid purchased a machinery for Rs.75000. Estimated life of machine is 10 years. After which its scrap value will be Rs.5000 only. Find out the annual depreciation according to fixed instalment method and prepare the machinery account for first four years.

9. Nauman and Tahir formed a partnership on 1st January 2016. They agreed that out of profits, (i) Nauman should receive salary of Rs.500 per month. (ii) Interest on capital should be allowed at 6 % p.a. (iii) Remaining profits will be divided equally. Nauman brings a capital of Rs.65000/- and Tahir Rs.120000/- on 1st January 2016. During the year their drawings were:- Nauman Rs.15000/- and Tahir Rs.20000/- Profit before above noted expenses were Rs.50000. Required: Prepare profit and loss account and capital accounts of the partners. -9

Nauman اور طاہر نے یکم جنوری 2016ء کو شراکت داری کی۔ معاہدہ کے تحت منافع میں سے (i) نعمان ماہانہ مبلغ پانچ سو روپے تنخواہ وصول کرے گا۔ (ii) سرمائے پر سود 6 فی صد سالانہ ہوگا۔ (iii) بقیہ منافع برابر تقسیم ہوگا۔ نعمان نے مبلغ 65000/- روپے بطور سرمایہ لگایا اور طاہر نے مبلغ ایک لاکھ 20 ہزار روپے بطور سرمایہ لگایا۔ یکم جنوری 2016ء کو دوران سال ان کی برداشتی درج ذیل ہے:- نعمان مبلغ 15000/- روپے، طاہر مبلغ 20000/- روپے۔ درج بالا اخراجات سے پہلے مبلغ 50000/- روپے منافع ہوا۔ مطلوب:- نفع اور نقصان کا کھاتہ اور شرکاء کے سرمائے کا کھاتہ بنائیں۔

9. Nauman and Tahir formed a partnership on 1st January 2016. They agreed that out of profits, (i) Nauman should receive salary of Rs.500 per month. (ii) Interest on capital should be allowed at 6 % p.a. (iii) Remaining profits will be divided equally. Nauman brings a capital of Rs.65000/- and Tahir Rs.120000/- on 1st January 2016. During the year their drawings were:- Nauman Rs.15000/- and Tahir Rs.20000/- Profit before above noted expenses were Rs.50000. Required: Prepare profit and loss account and capital accounts of the partners.

پرنسپل آف اکاؤنٹنگ پرچہ - دوسرا (کامرس گروپ) PRINCIPLES OF ACCOUNTING PAPER-II (COMMERCE GROUP)
(NEW SCHEME) (نیو سکیم)

TIME ALLOWED: 30 Minutes

وقت = 30 منٹ

MAXIMUM MARKS: 20

OBJECTIVE حصہ معروضی

کل نمبر = 20

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کر یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر سوالات ہر گز حل نہ کریں۔

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number. On bubble sheet, use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. Attempt as many questions as given in objective type question paper and leave others blank. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1۔

- (1) In Single Entry System, only _____ are opened. (1) اکہرے نظام کے تحت صرف _____ کھولے جاتے ہیں۔
(A) Personal accounts شخصی اکھائے جات (B) Real accounts حقیقی اکھائے جات
(C) Nominal accounts نمائشی اکھائے جات (D) Real and Nominal accounts حقیقی اور نمائشی اکھائے جات
- (2) Credit sale can be obtained by preparing:- (2) اُدھار فروخت _____ تیار کر کے معلوم کی جاسکتی ہے۔
(A) Cash Book کیش بک (B) Statement of affairs گوشوارہ معاملات
(C) Debtor account دین دار اکھائے (D) Creditor account لین دار اکھائے
- (3) In appearance, the statement of affairs is similar to:- (3) شکل کے لحاظ سے گوشوارہ معاملات مشابہت رکھتا ہے۔
(A) Profit & loss account نفع و نقصان کا اکھائے (B) Balance sheet بیلنس شیٹ
(C) Bank statement بینک کا گوشوارہ (D) Trial balance ٹرائل بیلنس
- (4) Credit purchase can be ascertained by preparing:- (4) اُدھار خرید کا پتا چلایا جاسکتا ہے۔
(A) Debtor account دین دار اکھائے (B) Creditor account لین دار اکھائے
(C) Sales account اکھائے فروخت (D) Purchase account اکھائے خرید
- (5) Receipt and payment account shows:- (5) وصولیوں اور ادائیگیوں کا اکھائے ظاہر کرتا ہے۔
(A) Debit and credit balance of ledgers لیجرز کے ڈیبٹ اور کریڈٹ بیلنس (B) Incomes and expenditures آمدنیوں اور اخراجات کو
(C) Cash receipts and payments نقد وصولیوں اور ادائیگیوں کو (D) Assets and liabilities اثاثہ جات اور ذمہ داریاں
- (6) Subscription received in advance is:- (6) ایڈوانس میں وصول کیا جانے والا چندہ ہے۔
(A) Income آمدنی (B) An expense خرچہ (C) Liability ذمہ داری (D) An asset اثاثہ
- (7) Non-profit making organizations prepare it to determine surplus or deficit:- (7) غیر منافع بخش ادارے اپنا فاضل یا خسارہ معلوم کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔
(A) Trading account تجارتی اکھائے (B) Profit & loss account نفع و نقصان کا اکھائے
(C) Receipts and payments account وصولیوں اور ادائیگیوں کا اکھائے (D) Income and expenditure account آمدنی اور اخراجات کا اکھائے
- (8) The amount paid to a person who is invited to deliver lectures in a club is known as:- (8) کسی شخص کو کلب میں لیکچرز دینے کے عوض جو ادائیگی کی جاتی ہے، کہلاتی ہے۔
(A) Salary تنخواہ (B) Wages اجرتیں (C) Honorarium اعزازیہ (D) Income آمدنی
- (9) The Consignee is:- (9) مرسل الیہ ہے۔
(A) Principal مالک (B) Agent ایجنٹ (C) Buyer خریدار (D) Seller فروخت کار
- (10) In case of del credere commission, the liability for bad debts is on:- (10) ذیل کریڈٹ کمیشن کی صورت میں ڈوب جانے والی رقم کی ذمہ داری ہوگی۔
(A) Consignor مرسل پر (B) Consignee مرسل الیہ پر (C) Customer گاہک پر (D) Notary Public نوٹری پبلک پر
- (11) A company is owned by:- (11) کمپنی کے مالکان ہوتے ہیں۔
(A) Directors ڈائریکٹرز (B) Shareholders حصہ داران (C) Promoters پرموٹرز (D) Underwriters انڈر رائٹرز
(درج لکھئے)

- (12) A company created by the grant of Royal Charter is called:- ایسی کمپنی جو شاہی فرمان کے تحت قائم کی جاتی ہے۔ (12)
- (A) Chartered Company چارٹرڈ کمپنی (B) Statutory Company قانونی کمپنی
- (C) Company limited by guarantee گارنٹی کی حد تک ذمہ داری والی کمپنی (D) Company limited by shares حصص کی حد تک ذمہ داری والی کمپنی
- (13) When shares are issued at a price less than the face value, it is called issue of shares at:- جب حصص اصل قیمت سے کم قیمت پر جاری کئے جائیں تو کہا جائے گا کہ حصص جاری ہوئے۔ (13)
- (A) Par اصل قیمت پر (B) Premium زیادہ قیمت پر (C) Discount رعایتی قیمت پر (D) Book value کتابی قیمت پر
- (14) Capital with which a company is registered is called:- وہ سرمایہ جس سے کمپنی رجسٹرڈ ہوتی ہے، کہلاتا ہے۔ (14)
- (A) Authorized capital منظور شدہ سرمایہ (B) Issued capital جاری شدہ سرمایہ
- (C) Paid up capital ادا شدہ سرمایہ (D) Called up capital طلب شدہ سرمایہ
- (15) The debenture which do not carry any charge upon the assets of the company are called:- ایسے تمسکات جن کی ادائیگی کے لیے کمپنی کے اثاثے ذمہ دار نہ ہوں، وہ کہلاتے ہیں۔ (15)
- (A) Naked debenture عریاں تمسکات (B) Registered debenture رجسٹرڈ تمسکات
- (C) Mortgage debenture کفالتی تمسکات (D) Redeemable debenture قابل واپسی تمسکات
- (16) The partnership act is:- قانون شراکت داری ہے۔ (16)
- (A) 1932 (B) 1912 (C) 1962 (D) 1984
- (17) The benefit of the good name or reputation of a business is called:- وہ فائدہ جو کاروبار اپنی مشہوری یا اچھے نام کی وجہ سے حاصل کرتا ہے، وہ کہلاتا ہے۔ (17)
- (A) Liability ذمہ داری (B) Goodwill سناکھ (C) Amortization امارٹائزیشن (D) Depreciation فرسودگی
- (18) Under straight line method, depreciation is calculated on:- مقررہ قسط کے طریقے کے تحت فرسودگی ہر سال معلوم کی جاتی ہے۔ (18)
- (A) Original cost اصل قدر پر (B) Written down value گھٹتی ہوئی قدر پر
- (C) Scrap value کھاڑ قدر پر (D) Market value بازاری قدر پر
- (19) Depreciation is charged on:- فرسودگی معلوم کی جاتی ہے صرف:- (19)
- (A) Fixed assets only فکسڈ اثاثہ جات پر (B) Current assets only چالو اثاثہ جات پر
- (C) Both A and B دونوں A اور B پر (D) Floating assets only فلوٹنگ اثاثہ جات پر
- (20) The decrease in the value of intangible assets is known as:- غیر مرئی اثاثہ جات کی قدر میں کمی کہلاتی ہے۔ (20)
- (A) Amortization امارٹائزیشن (B) Appreciation اضافہ (C) Depreciation فرسودگی (D) Depletion ذخیرہ میں کمی

انٹرمیڈیٹ امتحان پارٹ - II (کلاس بارہویں)

پرنسپل آف اکاؤنٹنگ پرچہ - دوسرا (کامرس گروپ) (OLD SCHEME) (اولڈ سکیم)

TIME ALLOWED: 2.10 Hours

وقت = 2.10 گھنٹے

MAXIMUM MARKS: 60

SUBJECTIVE حصہ انشائیہ

کل نمبر = 60

نوٹ - جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کیجیے جو کہ سوالیہ پرچے میں درج ہے۔
NOTE: - Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any six parts.

12 = 2 x 6

سوال نمبر 2- کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) What is meant by Pure Single Entry Accounting System? خالص سنگل انٹری اکاؤنٹنگ سسٹم سے کیا مراد ہے؟
- (ii) Define the term "Margin". اصطلاح "مارجن" کی تعریف کریں۔
- (iii) What is the difference between Statement of Affairs and Balance Sheet? معاملات کے گوشوارہ اور بیلنس شیٹ میں کیا فرق ہے؟
- (iv) What is the Conversion Method of Single Entry System into Double Entry System? سنگل انٹری سسٹم کو ڈبل انٹری سسٹم میں تبدیل کرنے کا طریقہ بیان کریں۔
- (v) What is Consignment Outward? بیرونی مال مرسلہ سے کیا مراد ہے؟
- (vi) Who is Consignor? مرسل کے کہتے ہیں؟
- (vii) What is meant by Overriding Commission? اضافی کمیشن سے کیا مراد ہے؟
- (viii) What are the Direct Expenses in Consignment? مال مرسلہ میں براہ راست اخراجات سے کیا مراد ہے؟
- (ix) What is Specific Reserve? خاص ریزرو سے کیا مراد ہے؟

3. Attempt any six parts.

12 = 2 x 6

سوال نمبر 3- کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) What is Partnership? شراکت سے کیا مراد ہے؟
- (ii) Who is Junior Partner? جونیئر حصہ دار کون ہوتا ہے؟
- (iii) Define Dissolution by Agreement. معاہدہ کے ذریعے کاروبار کے خاتمہ کی تعریف لکھیں۔
- (iv) Define Sleeping Partner. غیر سرگرم حصہ دار کی تعریف کریں۔
- (v) What do you know about Fixed Partnership? مقررہ مدتی شراکت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟
- (vi) Define Non-Trading Concerns. غیر تجارتی اداروں کی تعریف کریں۔
- (vii) Define Deficit. خسارہ کی تعریف کریں۔
- (viii) What are usual sources of Income in Non-Trading Concerns? غیر تجارتی اداروں میں معمول کے ذرائع آمدن کیا ہوتے ہیں؟
- (ix) What is treatment of Endowment fund in Non-Trading Concerns? غیر تجارتی اداروں میں انڈومنٹ فنڈ کا کیا ٹریٹمنٹ ہے؟

4. Attempt any six parts.

12 = 2 x 6

سوال نمبر 4- کوئی سے چھ اجزاء کے جوابات تحریر کیجیے۔

- (i) Write four advantages of Joint Stock Company. مشترکہ سرمایہ کمپنی کے چار فوائد تحریر کریں۔
- (ii) What is Reserve Capital? ریزرو سرمایہ سے کیا مراد ہے؟
- (iii) Define Articles of Association. کمپنی کے قواعد و ضوابط کی تعریف کریں۔
- (iv) Write the difference between Professional promoters and Part-time promoters. پیشہ ور پروموترز اور جزوقتی پروموترز میں فرق بیان کریں۔
- (v) What are Irredeemable Debentures? ناقابل واپسی قسٹات کیا ہوتے ہیں؟
- (vi) Write the causes of Depreciation. فرسودگی کے اسباب تحریر کریں۔
- (vii) What is Accumulated Depreciation? مجموعی فرسودگی سے کیا مراد ہے؟
- (viii) Define Depletion. "کمی واقع ہونا" کی تعریف کریں۔
- (ix) Write the difference between Straight Line Method and Diminishing Balance Method. مساوی سالانہ اقساط کے طریقے اور بقایا کم ہو جانے کے طریقے میں فرق تحریر کریں۔

(درج ذیل)

SECTION-II حصہ دوم

نوٹ۔ کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ **24 = 8 x 3** **NOTE: - Attempt any three questions.**

5. - مسٹر اسجد نے یکم جنوری 2015ء کو 75000/- روپے کے سرمائے سے کاروبار شروع کیا۔ سال کے دوران اس نے 13750/- روپے کاروبار سے نکلوائے اور 15000/- روپے مزید سرمایہ لگایا۔ 31 دسمبر 2015ء کو اس کی مالی حالت درج ذیل تھی:-
Mr. Asjad started business with capital of Rs.75000/- on 1st January 2015. During the year he withdrew Rs.13750/- and introduced fresh capital of Rs.15000/-. His financial position on 31st December 2015, was as follows:-

	Rs.
Cash in hand نقد رقم	500
Bank overdraft بینک اوور ڈرافٹ	11500
Debtors دینداران	2000
Creditors لین داران	4200
Machinery مشینری	30000
Furniture فرنیچر	7500

وہ مشینری اور فرنیچر پر 10 فی صد فرسودگی چارج کرتا ہے اور دینداران پر 5 فی صد پروویژن نکالتا ہے۔ مطلوب:- اس کا سال 2015ء کا نفع نقصان معلوم کریں۔
He charged depreciation at 10 % on machinery and furniture and create a 5 % provision on debtors.
Required:- Calculate his profit/loss for the year ended 31st December 2015.

6. - ایک فرم نے 8 لاکھ مالیتی عمارت خریدی اور اس پر گھٹنا ہوا (کم ہوتا ہوا) بقایا کے طریقہ کے تحت 10 فی صد سالانہ فرسودگی کا فیصلہ کیا۔ پہلے چار سال کے لیے عمارت کا کھاتہ تیار کریں۔
A firm purchased a building costing Rs.800000/- and decided to depreciate at 10 % per annum under Reducing Balance Method. Prepare building account for first four years.

7. - سبحان نے شجاع کو 20000/- روپے کا سامان بھیجا اور 1000/- روپے اخراجات ادا کئے۔ سبحان نے اکاؤنٹ سیل وصول کیا کہ آدھی اشیا 18000/- روپے میں فروخت کر دی گئی ہیں جبکہ شجاع کے اخراجات 600/- روپے ہیں۔ اس کا کمیشن 8 فی صد فروخت پر ہے۔ مطلوب:- سبحان کی کتاب میں انٹریاں پاس کریں اور کنسنٹمنٹ کا کھاتہ بھی تیار کریں۔
Subhan sent goods at consignment to Shuja costing Rs.20000/-. Expenses incurred by Subhan Rs.1000/-. Subhan received account sale showing that half of consignment was sold for Rs.18000/-. Expenses paid by Shuja were Rs.600/-. His commission was 8 % on sales:-
Required:- Give journal entries in the books of Subhan and also prepare consignment account.

8. - یکم جنوری 2010ء کو کاشف اور جاوید نے حصد داری قائم کی۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ نفع میں سے (i) کاشف ہر ماہ مبلغ 500/- روپے تنخواہ وصول کرے گا۔ (ii) سرمائے پر چھٹی صد کے حساب سے سالانہ سود ادا کیا جائے گا۔ (iii) باقی نفع دونوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ یکم جنوری 2010ء کو کاشف نے کاروبار میں مبلغ 50000/- روپے لگائے اور جاوید نے یکم مارچ 2010ء کو مبلغ ایک لاکھ روپے لگائے۔ دوران سال کاشف نے مبلغ 15000/- روپے اور جاوید نے مبلغ 200/- روپے اپنے ذاتی استعمال کے لیے نکلوائے۔ درج بالا اخراجات سے پہلے مبلغ 50000/- روپے نفع تھا۔ مطلوب:- تخصیص نفع و نقصان حساب تیار کریں۔
Kashif and Javed formed a partnership on January 1st, 2010. They agreed that out of profits:- (i) Kashif should received salary of Rs.500/- per month. (ii) Interest on capital should be allowed at 6 % per annum. (iii) Reaming profit be divided equally. Kashif brings a capital of Rs.50000/- on January 1st, 2010, but Javed brings Rs.100000/- on March 1st, 2010 During the year drawings were: Kashif Rs.15000/- and Javed Rs.200/- Profit before the above expenses was Rs.50000/-
Required:- Prepare profit and loss appropriation account.

9. - عرفان کمپنی لمیٹڈ نے آٹھ لاکھ روپے سرمایہ آٹھ ہزار حصص بحساب سو روپے فی حصص تقسیم کیا۔ کمپنی نے پانچ ہزار حصص جاری کئے۔ چھ ہزار درخواستیں وصول ہوئیں۔ ایک ہزار درخواست گزاروں کو حصص آلات نہیں کئے گئے اور ان کی درخواستی رقم واپس کر دی گئی۔ پانچ ہزار حصص آلات کئے گئے۔ روزنامہ چاندراجا ت کریں اور کمپنی کی بیلنس شیٹ تیار کریں۔
Irfan and company Limited with capital of Rs.800000/- divided in 8000 shares of Rs.100 each. The company issued 5000 shares. Application of 6000 shares were received. No allotment was made to 1000 application and their application money was refunded. 5000 share allotted to applicants. Pass journal entries and prepare balance sheet.

PRINCIPLES OF ACCOUNTING PAPER-II (COMMERCE GROUP) (کامرس گروپ) - دوسرا (اولڈ سکیم)
(OLD SCHEME)

TIME ALLOWED: 20 Minutes

وقت = 20 منٹ

MAXIMUM MARKS: 15

OBJECTIVE حصہ معروضی

کل نمبر = 15

نوٹ۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو مار کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔ دائروں کو پُر نہ کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوالیہ پرچہ پر

Note: you have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number. On bubble sheet, use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. Attempt as many questions as given in objective type question paper and leave others blank. No credit will be awarded in case BUBBLES are not filled. Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1۔

- (1) Abnormal loss occurs due to:-
(A) Accident حادثہ (B) Theft ڈاکہ (C) Fire آگ (D) All of these ان تمام کی وجہ سے واقع ہوتا ہے۔
- (2) Single Entry System is not possible for:-
(A) Sole tradership انفرادی کاروبار کے لیے (B) Partnership شراکت داری کے لیے (C) Joint Stock Company مشترکہ سرمایہ کار کمپنی کے لیے (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں
- (3) Balance sheet is prepared under:-
(A) Single Entry System اکہرے نظام حساب نویسی میں (B) Double Entry System دہرے حساب داری نظام میں (C) Both A and B دونوں میں (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں
- (4) For a business depreciation is:-
(A) Income آمدن (B) Expense خرچ (C) Asset اثاثہ (D) Liability واجبات کاروبار کے لیے فرسودگی ہے۔
- (5) The tangible asset is a:-
(A) Copyright کاپی رائٹ (B) Goodwill ساکھ (C) Trademark تجارتی نشان (D) Machinery مشینری قابل محسوس اثاثہ ہے۔
- (6) The audit of company's accounts is:-
(A) Optional اختیاری (B) Occasional کبھی بکھار (C) Compulsory لازمی (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں کمپنی کے کھاتہ جات کا محاسبہ ہوتا ہے۔
- (7) Legal basic documents of a public company are:-
(A) Two دو (B) Three تین (C) Four چار (D) Five پانچ کسی بھی پبلک (عوامی) کمپنی کی بنیادی دستاویزات کی تعداد ہے۔
- (8) Del credere commission is calculated on:-
(A) Total sale کل فروخت پر (B) Cash sale نقد فروخت پر (C) Credit sale ادھار فروخت پر (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں ڈیل کریڈٹ کمیشن کی رقم نکالی جاتی ہے۔
- (9) The person who sends his goods to agent for sale against commission is called:-
(A) Consignor مرسل (B) Buyer خریدار (C) Seller فروخت کنندہ (D) Agent ایجنٹ وہ شخص جو اشیا کو کمیشن پر بیچنے کے لیے کسی ایجنٹ کے پاس بھیجتا ہے۔
- (10) The merger of two or more firms is called:-
(A) Dissolution کاروبار کا خاتمہ (B) Liquidation کاروبار کی سیال پذیری (C) Amalgamation ملا کر ایک کرنا (D) Conversion کاروبار کی تبدیلی دو یا دو سے زیادہ فرموں کا ادغام کہلاتا ہے۔
- (11) A business running in loss generellay have no:-
(A) Assets اثاثہ جات (B) Creditors قرض خواہ (C) Debtors مقروض (D) Goodwill ساکھ وہ کاروبار جو نقصان میں چل رہا ہوتا ہے عموماً اس کی رکے کوئی نہیں ہوتی رہوتے۔
- (12) When amalgamation takes place a new partnership deed is:-
(A) Necessary ضروری (B) Optional اختیاری (C) Conventional روایتی (D) Not necessary غیر ضروری جب کاروباری ادغام ہوتا ہے تو نیا شراکتی معاہدہ ہوتا ہے۔
- (13) Dividend can be paid out of:-
(A) Reserve ریزرو (B) Provision پروویژن (C) Specific reserve خاص ریزرو (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں مقسوم کی ادائیگی میں سے کی جاسکتی ہے۔
- (14) Sale of old Newspapers is treated as:-
(A) Assets اثاثہ جات (B) Expense خرچ (C) Income آمدن (D) Liability واجبات پرانے اخبارات کی فروخت کو شمار کیا جاتا ہے۔
- (15) Becoming of an asset out of date is termed as:-
(A) Depletion استعمال ہو کر ختم ہونا (B) Amortization رہن ختم ہونا (C) Obsolescence متروک ہو جانا (D) None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں کسی اثاثہ کا فرسودہ ہو جانا کہلاتا ہے۔

BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, MULTAN.
OBJECTIVE KEY FOR INTERMEDEAT ANNUAL/SUPPLY EXAMINATION, 2018

Name of Subject: Principles of Accounting
Group: New Scheme

Session: _____
Group: Old Scheme

Q. Nos	Paper Code	Paper Code	Paper Code	Paper Code
	4701			
1	A			
2	C			
3	B			
4	B			
5	C			
6	C			
7	D			
8	C			
9	B			
10	B			
11	B			
12	A			
13	C			
14	A			
15	A			
16	A			
17	B			
18	A			
19	A			
20	A			

Q. Nos	Paper Code	Paper Code	Paper Code	Paper Code
	8701			
1	B			
2	C			
3	B			
4	B			
5	D			
6	C			
7	B			
8	A, C			
9	A			
10	C			
11	D			
12	A			
13	A			
14	C			
15	C			
16				
17				
18				
19				
20				

سرٹیفکٹ بابت صحیح سوالیہ پرچہ مارکنگ Key

ہم نے مضمون نرسنگ آنر ایڈوانسڈ پرچہ گروپ کارس سکیم نرسنگ اولیہ انٹر سالانہ امتحان 2018 کا سوالیہ پرچہ انشائیہ و معروضی (Subjective & Objective) کو بنظر عین چیک کر لیا ہے یہ پرچہ Syllabus کے عین مطابق Set کیا گیا ہے۔ اس سوالیہ پرچہ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ ہم نے سوالیہ پرچہ کا اردو اور انگریزی Version بھی چیک کر لیا ہے۔ یہ Version آپس میں مطابقت رکھتے ہیں اور Syllabus کی مطابق بھی ہیں۔ نیز اس پرچہ کی معروضی (MCQs) Key کی بابت بھی تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہے۔ MCQs کی "Key" کو دوبارہ بھی بغور چیک کر لیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ ہم نے Key بنانے سے متعلق دفتر کی جانب سے تیار کردہ ہدایات وصول کر کے ان کا بغور مطالعہ کر لیا ہے اور ان کی روشنی میں Key بنائی ہے۔ نیز سب ایگزامینرز کیلئے تفصیلی ہدایات / مارکنگ سکیم / Rubrics بھی تیار کر دی گئی ہیں۔

Prepared & Checked By:

S.#	Name	Designation	Institution	Mobile No	Signature
1	M. Bilal	A.P	Govt. Civil Lines College Multan	0300-6357166	
2	MUHAMMAD YOUNAS	S.S.	Govt. Higher Secondary School Qadir Pur Ram Multan	0300-7378992	
3	Muhammed Jamil Khalid	Principal	G.H.S.S. Aikam Pur, Multan	0300-634183	

بمقام ڈائریکٹر (انشائیہ و معروضی) کے نام سے کیا گیا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہے۔

ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ، ملتان

مورخہ: 18-5-21 مضمون: PACE پرچہ: لآ گروپ: کارس

جنرل ہدایات برائے مارکنگ Key اولڈ سکیم/نیو سکیم (مارکنگ سکیم)

انٹری پارٹ فزکس ایکٹو سالانہ امتحان 2018ء

Sr #	Code	Error Indicated	Sr #	Code	Error Indicated
1.	UN	Un-Necessary	8.	Sp	Spelling Error
2.	Ir	Irrelevant	9.	P	Punctuation
3.	IN	Incomplete	10.	Wo	Wrong word error
4.	EX	Extra	11.	Wt	Wrong Tense
5.	Rp	Re-Produced	12.	Wf	Wrong Form
6.	Is	Insufficient	13.	OA	Over Attempt
7.	Gr	Grammar Error			

اہم نوٹ: ہر سوال "Full Award" سے کم نمبر لگانے کی صورت میں وجہ ضرور لکھیں۔

سوال نمبر 2، 3 ہر درست جز کے 2 نمبرز ہیں۔ مکمل طور پر درست لکھا ہونے کی صورت میں پورے پورے نمبرز لگائیں۔ جزوی طور پر درست ہونے کی صورت میں غلطی کے مفاد کو مد نظر رکھ کر نمبرز لگائیں۔ $\frac{1}{2}$ یا $\frac{1}{4}$ نمبرز لگانے سے گریز کریں۔

سوال نمبر 4۔ ابتدائی گوشوارہ جملات کے (7) نمبرز، اختتامی گوشوارہ جملہ (8) نمبرز اور نفع و نقصان کے گوشوارہ کے (8) نمبرز ہیں۔ مکمل سوال درست ہونے کی صورت میں پورے نمبرز دیں۔ جزوی طور پر درست ہونے کی صورت میں غلطی کے مفاد کو مد نظر رکھ کر نمبرز لگائیں۔

سوال نمبر 5۔ مکمل یا جزوی انگریزی نیتی ہیں۔ ہر جزوی انگریزی کے (3) نمبرز اور جملے کے (5) نمبرز ہیں۔ مکمل درست ہونے کی صورت میں پورے پورے نمبرز لگائیں۔ جزوی درست ہونے کی صورت میں غلطی کے مفاد کو مد نظر رکھ کر نمبرز لگائیں۔

سوال نمبر 6۔ حرف آمدنیوں و اخراجات کے گوشوارہ تیار کرنا ہے لہذا سوال مکمل درست ہونے کی صورت میں پورے پورے نمبرز لگائیں۔ جزوی طور پر درست ہونے کی صورت میں غلطی کے مفاد کو مد نظر رکھ کر نمبرز لگائیں۔